



## سوال

(368) رفع الیدین کے بارے میں سوالات اور ان کے جوابات

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

- 1- رفع الیدین کرنا سنت ہے۔ مؤکدہ ہے یا غیر مؤکدہ سنت ہے؟
- 2- رفع الیدین کے بغیر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟
- 3- رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نمازوں میں کی ہے؟
- 4- رفع الیدین کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کتنی حدیثیں آتی ہیں؟
- 5- رفع الیدین سجدہ سے سر اٹھاتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا نہیں؟
- 6- رفع الیدین علماء کتے ہیں ۱۰ نیکیاں ملتی ہیں۔ ثبوت ہے یا نہیں؟
- 7- رفع الیدین کو حنفی علماء گھوڑے کی دم..... کہتے ہیں۔ آپ تشریح فرمائیں؟
- 8- رفع الیدین کم لوگ کرتے ہیں بہت لوگ نہیں کرتے ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟
- 9- رفع الیدین امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام ابو حنیفہؒ ان چاروں اماموں نے رفع الیدین کی ہے؟ آپ وضاحت فرمائیں۔
- 10- رفع الیدین خلفاء راشدین آیا کرتے تھے؟ آپ ارشاد فرمائیں۔ آپ وضاحت سے جدا جدا ثبوت دیں؟

## بجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

1- صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ سجدہ میں آپ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری، الاذان، باب رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الاذنتاح سواء، صحیح مسلم، الصلاة، باب استحباب رفع الیدین حذو المسبحین)

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو رکعتوں سے اٹھتے تو رفع الیدین کرتے۔ (صحیح بخاری کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا قام من الرکعتین)



شروع نماز تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کی جو حیثیت ہے رکوع والے رفع الیدین کی بھی وہی حیثیت ہے۔

2- رفع الیدین کے بغیر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔

3- صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالہ سے لکھا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے اور معلوم ہے آخری نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع سے سر بھی اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین بھی کیا۔ پھر ان سے پوچھیں شروع نماز والارفع الیدین اور تروں کی تیسری رکعت والارفع الیدین آخری نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ دلیل پیش کریں ورنہ انہیں بھی پھوڑ دیں۔

4- رفع الیدین کرنے کی احادیث بہت زیادہ ہیں۔ البتہ ان کی تعداد کتاب و سنت میں کہیں نہیں آئی۔ ہاں صاحب نیل الفرقین نے لکھا ہے رفع الیدین کرنے کی بارہ احادیث صحیح ہیں۔ (نیل الفرقین فی مسئلہ رفع الیدین ص: ۵۳ لا آستاذ مولانا محمد نور شاہ صاحب کشمیری)

5- صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ (صحیح بخاری، کتاب الأذان، باب استحباب رفع الیدین حدوا لمنکبین مع تکبیرة الاحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وانه لا يفضله اذ ارفع من السجود)

6- قرآن مجید میں ہے: مَنْ جَاءَ بِالنَّسِيَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتِثَالِنَا (الانعام: ۱۶۰)

”جو کوئی اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا، اسے اس کا دس گنا ثواب ملے گا۔“ [تو چار رکعت والی نماز میں دس دفعہ رفع الیدین ہے تو یہ کل ایک سو نیکی بنتی ہے تو جو صرف پہلی دفعہ رفع الیدین کرتے ہیں، پھر نہیں کرتے وہ صرف چار رکعات والی ایک ہی نماز میں نوے نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی نماز بھی نبی کریم ﷺ والی نماز نہیں۔

7- حنفی علماء کرام سے وہ دلیل طلب کریں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع والے رفع الیدین کو گھوڑے یا سرکش گھوڑے کی دم قرار دیا ہو؟ نیز ان سے پوچھیں و تروں کی تیسری رکعت والارفع الیدین گھوڑے یا سرکش گھوڑے کی دم ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر وہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو دلیل پیش کریں۔

8- نمبر ۲ میں لکھ چکا ہوں ”رفع الیدین کے بغیر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں۔“

9- ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ رحمہم اللہ اجمعین دین میں حجت و دلیل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب حجت و دلیل ہے اور پہلے بتایا جا چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔

10- خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم بھی دینی امور میں حجت و دلیل نہیں دیکھنے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے شرعی دلائل چار ہیں۔ (۱) کتاب اللہ تعالیٰ۔ (۲) سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (۳) اجماع مجتہدین امت رحمہم اللہ اجمعین۔ (۴) قیاس صحیح۔ غور فرمائیں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کو اصول فقہ والوں نے شرعی دلائل میں شامل نہیں فرمایا۔

## فتاویٰ علمائے حدیث

### کتاب الصلاة جلد 1



مجلس البحث الإسلامي  
مفتی